



## Noble Quran      القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبدالقدیر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

### سورة الحجر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ

الف۔ لام۔ را۔

تِلْكَ آيَتُ الْكِتَبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ

یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور کھلے قرآن کی۔

رَبُّهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَنُوا مُسْلِمِينَ

کسی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں، کسی طرح مسلمان ہوتے۔

ذَرْهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَّتُّعُونَ وَيُلْهِهِمُ الْأَمْلُ

چھوڑ دے ان کو، کھالیں اور برت (مزے کر) لیں، اور امید پر بھولے رہیں،

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

کہ آگے (عنقریب) معلوم کریں گے۔

.1

.2

.3

.4

وَمَا أَهْلُكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ

اور کوئی بستی ہم نے نہیں کھپائی (ہلاک) مگر اس کا لکھا تھا مقرر (پہلے سے طے شدہ)۔

.5

مَاتَسِيقٌ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتُخْرُونَ

نہ شتابی (جلدی) کرے کوئی فرقہ (قوم) اپنے وعدے (ہلاکت کے مقرر و وقت) سے اور نہ دیر کرے۔

.6

وَقَالُوا إِيَّاهَا أَلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الَّذِي كُرِّإِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

اور لوگ کہتے ہیں، اے شخص! کہ تجوہ پر اُتری ہے نصیحت، تو مقرر (ضرور) دیوانہ ہے۔

.7

لَوْمَاتٌ أَتَيْنَا بِالْمُلْكِةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ

کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتے، اگر تو سچا ہے۔

.8

مَا نَزَّلْنَا الْمُلْكِةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَاً مُّنْظَرِينَ

ہم نہیں اتارتے فرشتے مگر کام ٹھہرا کر (عذاب کے فیصلے کے ساتھ)،

اور اس وقت نہ ملے گی آنکوڈ صیل (مہلت)۔

.9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا أَلَّذِي كُرِّإِنَّ اللَّهَ لَحْفِظُونَ

(بیشک) ہم نے آپ اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم اسکے نگہبان ہیں۔

.10

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ

اور ہم بھیج چکے ہیں رسول تجوہ سے پہلے کئی فرقوں (قوموں) میں اگلے (پہلی)۔

.11

وَمَا يَأْتِيهِ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ

اور نہیں آیا ان پاس کوئی رسول، مگر کرتے رہے اس سے ہنسی۔

.12

كَذَّ لِكَفَنَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ

اسی طرح پیٹھاتے (ڈال دیتے) ہیں ہم اس کو، دل میں گنگاروں کے۔

.13

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ  
صَلَوةً

یقین نہ لائیں گے اس پر اور ہو یا تی (ہوتی آتی) ہے رسم پہلوں کی۔

.14

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوْا فِيهِ يَعْرُجُونَ

اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے، اور سارے دن اس میں چڑھتے رہیں۔

.15

لَقَالُوا إِنَّمَا سَكَرْتُ أَبْصَرْنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْخُومُونَ

یہی کہیں کہ ہماری نگاہ ہی بند کی ہے، نہیں، ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے۔

.16

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلتَّنَظِيرِينَ

اور ہم نے بنائے ہیں آسمان میں بُرج اور رونق دی اس کو دیکھنے والوں کے آگے۔

.17

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَنٍ رَّاجِيِّمٍ

اور بچار کھا اس کو ہر شیطان مردود سے۔

.18

إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَ الْسَّمْعَ فَأَتَبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ

مگر جو چوری سے سُن گیا، سواس کے پیچھے پڑا نگارا چلتا۔

.19

وَالْأَرْضَ مَدَذَنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيٌّ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٌ

اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور ڈالے اس میں (پھاڑوں کے) بوجھ، اور اگائی اس میں ہر چیز اندازے کی۔

.20

وَجَعَلْنَا لِكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

اور بنادیں (فراتم کیں) تم کو اس میں روزیاں، اور (ان کے لئے بھی) جن کو تم نہیں روزی دیتے۔

.21

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَرَآءِنُهُ وَمَا نَزَّلْنَاهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

اور ہر چیز کے ہم پاس خزانے ہیں، اور اتارتے ہیں ہم ٹھہرے (مقرر کئے) ہوئے اندازے پر۔

.22

وَأَرْسَلْنَا أَرْرِيَحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَكُمْ وَمَا أَنْثُمْ لَهُ بِخَرِزِينَ

اور چلا دیں ہم نے باویں (ہوائیں) رس بھری، پھر اتارا ہم نے آسمان سے پانی،

بھر تم کو وہ پلایا، اور تم نہیں رکھتے اس کا خزانہ۔

.23

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمْبِتُ وَنَحْمِنُ الْوَارِثُونَ

اور ہم ہی ہیں جلاتے (زندگی دیتے) اور مارتے اور ہم ہی ہیں پیچھے (وارث) رہتے۔

.24

وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَمْسَتَقْدِيمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَمْسَشُخْرِينَ

اور ہم نے جان رکھا ہے جو آگے بڑھے (پہلے گزر چکے) ہیں تم میں،

اور جان رکھے ہیں پچھاڑی (بعد میں آنے) والے۔

.25

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ

اور تیر ارب، وہی گھیر لائے (اکھڑا کرے) گا ان کو،

إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

بیشک وہی ہے حکموں والا خبردار۔

.26

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَّإٍ مَّسُونٍ

اور ہم نے بنایا آدمی کھنکھناتے سنے گارے سے۔

.27

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ مِّنْ نَّارٍ أَلْسَمُومٍ

اور جان (جنوں) کو بنایا ہم نے اس سے پہلے لوکی آگ سے۔

.28

وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَّإٍ مَّسُونٍ

اور جب کھاتیرے رب نے فرشتوں کو، میں بناؤں گا ایک بشر کھنکھناتے سنے گارے سے۔

.29

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا أَلْهَمُ سَجِدِينَ

پھر جب ٹھیک کروں (بنا چکوں) اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سے (روح)،

تو گر پڑیوں اس کے سجدے میں۔

.30

فَسَجَدَ الْمَلَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

تب سجدہ کیا ان فرشتوں نے سارے اکھٹے۔

.31

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي أَنَّ يَكُونَ مَعَ الْسَّاجِدِينَ

مگر ابليس نے۔ نہ مانا کہ ساتھ ہو سجدہ کرنے والوں کے۔

.32

قَالَ يَأَيُّهَا إِبْلِيسُ مَالِكَ الْأَلَّاتِ كُونَ مَعَ الْسَّاجِدِينَ

فرمایا، اے ابليس! کیا ہوا تجھ کو؟ کہ نہ ساتھ ہو اسجدے والوں کے۔

.33

قَالَ لَمَّا كُنَّ لِأَسْجُدَ لَبَثَرَ خَلْقَتُهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَّامَّ مَسْنُونٍ

بولا، میں وہ نہیں سجدہ کروں ایک بشر کو کہ تو نے بنایا ہکنکھناتے سنے گارے سے۔

.34

قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ

فرمایا تو تو نکل یہاں سے، تجھ پر چینک مار (ٹومر دود) ہے۔

.35

وَإِنَّ عَلَيْكَ الْغَنَّةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

اور تجھ پر پھٹکار (لعنت) ہے انصاف کے دن تک۔

.36

قَالَ رَبِّيْ فَأَنْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعْثُرُونَ

بولا، اے رب! تو مجھ کو ڈھیل دے اس دن تک کہ (جب) مردے جیویں (دوبارہ پیدا کئے جائیں)۔

.37

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنَذَّرِينَ

فرمایا تو تجھ کو ڈھیل (مہلت) دی ہے۔

.38

إِلَى يَوْمِ الْوُقْتِ الْمَعْلُومِ

اسی ٹھہرے (مقررہ) وقت کے دن تک۔

.39

قَالَ رَبِّهِمَا أَغْوَيْتَنِي لِأَرْتِينَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غُوَيْتَهُمْ أَجْمَعِينَ

بولا، اے رب! جیسا تو نے مجھ کو راہ سے کھویا، میں ان کو بھاریں (دل فریباں) دکھاؤں گاز میں میں،  
اور راہ سے کھوؤں (بھٹکاؤں) گا ان سب کو۔

.40

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ

مگر جو تیرے پھنسنے بندے ہیں۔

.41

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ

فرمایا، یہ راہ ہے مجھ تک سیدھی۔

.42

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ أَتَّبَعَكَ مِنَ الْفَاغِينَ

جو میرے بندے ہیں، تجھ کو ان پر زور نہیں، مگر جو تیری راہ چلا خراب لوگوں میں۔

.43

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجَمَعِينَ

اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا۔

.44

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزُءٌ مَقْسُومٌ

اس کے سات دروازے ہیں۔ ہر دروازہ ان میں ایک فرقہ بٹ رہا ہے۔

.45

إِنَّ الْمُفْتَقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعَيْنِينِ

جو پر ہیز گار ہیں باغوں میں ہیں اور چشموں میں۔

.46

أَذْخُلُوهَا بِسَلَامٍ إِمَّا مِنْ يَنْ

جاوہ اس میں سلامتی سے خاطر جمع (اطمینان) سے۔

.47

وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ إِخْوَانًا عَلَى اسْرِيرٍ مُّتَّقَبِّلِينَ

اور نکال ڈالی ہم نے جوان کے جیوں میں تھی خفگی، بھائی ہو گئے تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے۔

.48

لَا يَمْسُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجٍ

نہ پہنچے گی ان کو وہاں کچھ تکلیف، اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے۔

.49

نَبَيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

خبر شناദے میرے بندوں کو کہ میں ہوں اصلی بخششہ والامہربان۔

.50

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

اور یہ بھی کہ میری ماروہی دکھ کی مار (دردناک عذاب) ہے۔

.51

وَنَكِيلُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ

اور احوال سنان کو ابراہیم کے مہمانوں کا۔

.52

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَّمًا

جب چلے آئے اسکے گھر میں اور بولے سلام۔

قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ

وہ یو لا ہم کو تم سے ڈر آتا ہے۔

.53

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكُ بِغَلِيمٍ عَلَيْمٍ

بولے، ڈرمت! ہم تجھ کو خوشی سناتے ہیں ایک ہوشیار لڑکے کی۔

.54

قَالَ أَبَشِّرُ ثُمُونِي عَلَى أَنَّ مَسَنِيَ الْكِبَرُ فَيَمْ تُبَشِّرُونَ

بولا، تم خوشی سناتے ہو، مجھ کو جب پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا، اب کا ہے پر خوشی سناتے ہو۔

.55

قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَنِطِينَ

بولے، ہم نے تجھ کو خوشی سنائی تحقیق (برحق)، سومت ہو تو نامیدوں میں۔

.56

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنَ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا أَلْفَالُونَ

بولا، اور کون آس توڑے اپنے رب کی مہر (رحمت) سے؟ مگر جوراہ بھولے ہیں۔

.57

قَالَ فَمَا حَطَبِكُمْ أَيُّهَا أَمْرُرَسْلُونَ

بولا، پھر کیا مہم ہے تمہاری؟ اے اللہ کے بھیجو!

.58

قَالُوا إِنَّا أَنْرَسْلَنَا إِلَى قَوْمٍ لَّجُرِمِينَ

بولے، ہم بھیجے آئے ہیں ایک قوم گنہگار پر۔

.59

إِلَّا إِلَّا لُوطٌ إِنَّا مَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ

مگر لوط کے گھروالے، ہم ان کو بچالیں گے سب کو۔

.60

إِلَّا أَمْرَأَتُهُ قَدْ رَنَّا إِلَيْهَا الْمَنَّ الْغَيْرِينَ

مگر ایک اس کی عورت، ہم نے ٹھہرا (ٹے کر) لیا، وہ ہے رہ جانے والوں میں۔

.61

فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَلَّا لُوطٌ أَمْرَرْسَلُونَ

پھر جب پہنچے لوط کے گھروں بھیجے ہوئے۔

.62

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ

بولا تم لوگ ہو گئے اوپرے (لگتے ہوا جنبی)۔

.63

قَالُوا بَلْ چَنْتَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَزُونَ

بولے نہیں! پر ہم لائے ہیں تجھ پاس (وہ عذاب) جس میں وہ بھگڑتے (شکرتے) تھے۔

.64

وَأَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ

اور ہم لائے ہیں تجھ پاس مقرر (حق) بات، اور ہم سچ کہتے ہیں۔

.65

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقُطْعٍ مِّنَ الْيَلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ

سو لے نکل اپنے گھروالوں کو رات رہے سے، اور آپ چل ان کے پیچے، اور مڑ کرنہ دیکھے تم میں کوئی،

وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمِرُونَ

اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم ہے۔

.66

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِذَالِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصِحِّينَ

اور چُکا ( بتا ) دیا ہم نے اس کو وہ کام، کہ ان کی جڑ کٹی ہے ( کٹ کر رہے گی ) صحیح ہوتے۔

.67

وَجَاءَ أَهْلَ أُمَّةٍ يَسْتَبْشِرُونَ

اور آئے شہر کے لوگ خوشیاں کرتے۔

.68

قَالَ إِنَّهُؤُلَاءِ ضَيْفٍ فَلَا تَفْضَلُونِ

بولا، یہ لوگ میرے مهمان ہیں، سو مجھ کو ز سوامت کرو۔

.69

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزِنُونِ

اور ڈر واللہ سے، اور میری آبرومت کھوو۔

.70

قَالُوا أَوَلَمْ نَهَكُ عَنِ الْعَلَمِينَ

بولے، ہم نے تجھ کو منع نہیں کیا؟ جہاں کی حمایت سے۔

.71

قَالَ هُوَ لَا يَبْنَىٰ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ

بولا، یہ حاضر ہیں میری بیٹیاں، اگر تم کو (پچھے) کرنا (ہی) ہے۔

.72

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سُكْرٍ تِمْ يَعْمَهُونَ

قسم ہے (اے نبی) تیری جان کی! وہ (اس وقت) اپنی مستی میں مد ہوش ہیں۔

.73

فَأَخَذَنَاهُمْ أَصْحَاحَةً مُشْرِقِينَ

پھر پکڑا ان کو چنگھاڑے سورج نکلتے۔

.74

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِيلٍ

پھر کرڈا ہم نے وہ بستی اوپر تلے، اور بر سائے ان پر پتھر کھنگر کے۔

.75

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِلْمُتَوَسِّمِينَ

بیشک اس میں پتے (نشانیاں) ہیں دھیان کرنے ( بصیرت ) والوں کو۔

.76

وَإِنَّهَا الْبِسْبِيلِ مُقِيمٍ

اور وہ بستی ہے سیدھی راہ پر۔

.77

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِلْمُؤْمِنِينَ

البتہ اس میں نشانی ہے یقین کرنے والوں کو۔

.78

وَإِنْ كَانَ أَصْحَبُ الْأَيْكَةَ لِظَّالِمِينَ

اور تحقیق (یقیناً) تھے بن (ایکہ) کے رہنے والے گنہگار۔

.79

فَأَنْتَ قَمَنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لِيَامَامٍ مُّمِينٍ

سو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر راہ پر نظر آتے۔

.80

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابَ الْحِجْرِ الْمُهَرَّسِلِينَ

اور تحقیق (یقیناً) جھٹلا یا حجر والوں نے رسولوں کو۔

.81

وَءَانَتِنَاهُمْ إِذَا يَتَنَاهُ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

اور دیں ہم نے ان کو نشانیاں، سو (مگر) رہے ان کو ٹلاتے۔

.82

وَكَانُوا أَيْنِحْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا إِمِينِينَ

اور تھے تراشتے پہاڑوں کے گھر خاطر جمع (اطمینان) سے۔

.83

فَأَخْذَنَاهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ

پھر پکڑا انکو چنگھاڑنے، صح ہوتے۔

.84

فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا أَيْكُسِبُونَ

پھر کام نہ آیا ان کو جو کماتے تھے۔

.85

وَمَا خَلَقْنَا الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحُكْمِ

اور ہم نے بنائے نہیں آسمان و زمین اور جوان کے نقش ہے، بغیر تدبیر (مقصد)۔

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتَتِيهِ فَاصْفَحِ الصَّفَحَ الْجُمِيلَ

اور قیامت مقرر آئی (آنی) ہے، سو کنارہ پکڑ (درگزرک) اچھی طرح کنارہ (درگزرا)۔

.86

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ

تیر ارب جو ہے، وہی ہے بنانے والا (خالق) خبردار۔

.87

وَلَقَدْ أَتَيْنَاهُ سَبْعًا مِّنَ الْمُثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ

اور ہم نے دی ہیں تجھ کو سات آیتیں وظیفہ، اور قرآن بڑے درجے کا۔

.88

لَا تَمْدَدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزُوا جَامِنْهُمْ وَلَا تَحْزُنْ عَلَيْهِمْ

مت پسار (درازکر) اپنی آنکھیں اُن چیزوں پر جو برتنے کو دیں ہم نے ان کو کئی طرح کے لوگوں کو،

اور نہ غم کھاؤں پر،

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

اور جھکا اپنے بازاویماں والوں کے واسطے۔

.89

وَقُلْ إِنِّي أَنَا اللَّهُ يُرِي الْمُفْتَنِينَ

اور کہہ کہ میں وہی ہوں ڈرانے والا کھول کر (صف صاف)۔

.90

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ

جیسا ہم نے بھیجا ہے اُن بانٹی کرنے (فرقوں میں بٹنے) والوں پر۔

.91

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِصْبِيًّا

جنہوں نے کیا ہے قرآن کو بُٹیاں (ٹکڑے ٹکڑے)۔

.92

فَوَرَبِّكَ لَتَسْأَلُهُمْ أَجْمَعِينَ

سو قسم ہے تیرے رب کی! ہم کو پوچھنا ہے اُن سب سے۔

.93

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

جو کام کرتے تھے۔

.94

فَأُضَدَّ عِبَمَا تُؤْمِنُوا وَأَغْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

سو نادے کھول کر (ڈنکے کی چوٹ پر) جو تجھ کو حکم ہوا، اور دھیان نہ کر شرک والوں کا۔

.95

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهِزِّ عِينَ

ہم بس (کافی) ہیں تیری طرف سے ٹھٹھے (مذاق) کرنے والوں کو۔

.96

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ

جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ اور کسی کی بندگی۔

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

سو آگے (عنقریب) معلوم کریں گے۔

.97  
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكُمْ يَضْيِقُونَ صَدْرَكُمْ إِذَا يَقُولُونَ

اور ہمیں جانتے ہیں کہ تیرا جی رکتا (کوفت ہوتی) ہے ان کی باتوں سے۔

.98  
فَسَيِّدُ الْجَنَّاتِ إِنَّمَا يَعْلَمُ مَنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی، اور رہ سجدہ کرنے والوں میں۔

.99  
وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

اور بندگی کر اپنے رب کی، جب تک پہنچے تجھ کو یقین۔

\*\*\*\*\*

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

[www.quran4u.com](http://www.quran4u.com)

Email:

quran4u\_com@yahoo.com